

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا

یہی لوگ ہیں جن کے لیے ایک حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا

وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب

وَادْعُوكُرو اللَّهُ

اور یاد کرو اللہ کو

فِي آيَاتِ مَعْدُودٍ

دنوں میں گئے چھے

وَمَنْ تَأْخَرَ

اور جو کوئی تاخیر کرے

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ

تو جو کوئی دو دنوں میں جلدی کرے

فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

کوئی گناہ اس پر تو نہیں

فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

کوئی گناہ اس پر تو نہیں

لِمَنِ اتَّقَى

اس کے لیے جو تقویٰ کرے

وَاتَّقُوا اللَّهَ

اور ڈر وو اللہ سے

وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

اور جان لو بے شک تم طرف اسی کے تم اکٹھے کئے جاؤ گے

وَمِنَ النَّاسِ

اور لوگوں میں سے کوئی ہے

وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ

اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اپر اس کے جو اس کے دل میں ہے

مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

جو خوش کرتی ہے آپ کو بات اس کی زندگی میں دنیا کی

وَهُوَ أَكْرَمُ الْخِصَامِ

حالانکہ وہ سخت جھگڑا کرنے میں بھگڑا کرے ہے

وَإِذَا تَوَلَّ

اور جب وہ منہ موڑتا ہے

سَعْيٌ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا

وہ کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ وہ فساد کرے اس میں

وَيُهْلِكَ

اور وہ ہلاک کرے

وَالنَّسُلَ

اور نسل کو

الْحَرْث

حیثیت

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

اور اللہ نہیں وہ پسند کرتا فساد کو

وَإِذَا قِيلَ لَهُ

اور جب کہا جاتا ہے اسے

اَتَقِ اللَّهَ

ڈرو اللہ سے

اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِنْسِم

آمادہ کرتی ہے اسے عزت گناہ پر

فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ

تو کافی ہے اسے جہنم

وَلَيْسَ الْبَهَادُ

اور البتہ کتنا بر اے ٹھکانہ

وَمِنَ النَّاسِ

اور لوگوں میں سے کوئی ہے

مَنْ يَشْرِيْنُ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

اللَّهُكَ جو بیچتا ہے اپنے نفس کو چاہنے کے لیے رضا

وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعَبَادِ

اور اللَّهُ بہت شفیق ہے بندوں پر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا

ایمان لائے ہو

اے لوگو جو

ادْخُلُوا

داخل ہو جاؤ

فِي السِّلْمِ كَافَةً

پورے کے پورے

اسلام میں

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوطَ الشَّيْطَنِ

شیطان کے

قدموں کی

تم پیروی کرو

اور نہ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

کھلمن کھلا

دشمن ہے

بے شک وہ تمہارا

فَإِنْ زَلَّتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُمْ الْبَيِّنَاتُ

پھر اگر پھسل جاؤ تم آگئیں تمہارے پاس واضح نشانیاں

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

تو جان لو بے شک اللہ بہت زبردست ہے خوب حکمت والا ہے

هَلْ يَنْظُرُونَ

نہیں وہ انتظار کر رہے

إِلَّا
مَكْرٌ

أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظَلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ

یہ کہ آجائے ان کے پاس اللہ سائیانوں میں بادلوں کے

وَالْمَلِكَةُ

اور فرشتے

وَقُضِيَ الْأَمْرُ

کام اور پورا کر دیا جائے

وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

اوہ طرف اللہ ہی کے سب کام لوٹائے جاتے ہیں

سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

پوچھ لیجیے بنی اسرائیل سے

كُمْ أَتَيْنَهُمْ مِّنْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٌ
دیں ہم نے انہیں کتنی نشانیاں واضح

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُ
بعد اس کے آگئی اس کے پاس جو

وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ
اللہ کی نعمت کو بدلتے گا اور جو کوئی

فَإِنَّ اللَّهَ

اللہ توبے شک

شَدِيدُ الْعِقَابِ

سخت سزا دالا ہے

رُّبِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

مزین کردی گئی ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

دنیا کی زندگی

وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا

اور وہ مذاق کرتے ہیں ایمان لائے ان سے جو

وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ

اور وہ جنہوں نے تقوی کیا اوپر ہوں گے ان کے

يَوْمَ الْقِيَامَةِ

قیامت کے دن

وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

اور اللہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

تحت لوگ ایک ہی امت

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

اور اس نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب ساتھ حق کے

فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ

پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو

لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

تاکہ وہ فیصلہ کرے درمیان لوگوں کے اس میں جو انہوں نے اختلاف کیا جس میں

وَمُنْذِرِينَ

اور ذرا نے والے (بنائے)

مُبَشِّرِينَ

خوش خبری دینے والے

وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر آئیں ان کے پاس واضح نشایاں

بَغِيًا بَيْنَهُمْ

آپس میں بوجہ ضد کے

فَهُدَى اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنَوْا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ

اور اللہ توہدایت دی اللہ نے انہیں جو ایمان لائے اس کی جو انہوں نے اختلاف کیا اس میں حق میں سے اپنے حکم سے

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے طرف راستے سیدھے کے

أَمْ حَسِبُتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

کیا خیال کیا تم نے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں

وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثْلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ

حالات نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان کی جو گزر چکے تم سے پہلے

مَسْتَهْمُ

پہنچیں انہیں

وَالضَّرَاءُ

اور مصیبیں

الْبُشْرَاءُ

سمتیاں

وَزُلْزِلُوا

اور وہ ہلا دیئے گئے

وَالَّذِينَ أَمْنُوا مَعَهُ

ایمان لائے ساتھ اس کے

حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ

رسول کہنے لگا کہاں تک کہ

مَثْنَى نَصْرُ اللَّهِ

کب (آئے گی) مدد اللہ کی

اَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

خبردار بے شک مدد اللہ کی قریب ہے

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ

وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا کچھ خرچ کریں

قُلْ مَا أَنْفَقْتُمُ مِّنْ خَيْرٍ

کہہ دیجیے جو خرچ کرو تم مال میں سے

وَابْنِ السَّبِيلِ

اور مسافر کے لیے ہے

فَلِلَوَالدَّينِ

تو والدین کے لیے ہے

وَالسَّاكِنِينَ

اور مسکینوں

وَالْأَقْرَبِينَ

اور قرابت داروں

وَالْيَتَامَى

اور یتیموں

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

تو بے شک اللہ اسے خوب جانے والا ہے

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ

اور جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

جنگ کرنا تم پر لکھ دیا گیا

وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

اور وہ ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے

وَعَسَى آنُ تُحِبُّو شَيْئًا

اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو

وَعَسَى آنُ تَكْرَهُوا شَيْئًا

اور ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو

وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

اور وہ تمہارے لیے بُری ہو

وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

اور اللہ جانتا ہے جانتا ہے نہیں تم جانتے

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ

وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرام میں کے بارے میں جنگ کرنا اس میں (کیا ہے)

قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ

اس میں جنگ کرنا کہہ دیجیے بڑا (گناہ ہے)

وَالْمُسْجِدُ الْحَرَامُ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ

اور (روکنا) مسجد حرام سے اس کے رہنے والوں کو اس سے

وَصَلُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرًا

اور کفر کرنا اللہ کے راستے سے اور روکنا

أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ

اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا (گناہ) ہے

وَالْفِتنَةُ أَكْبَرُ مِنَ القَتْلِ

اور فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ

اور وہ ہمیشہ رہیں گے جنگ کرتے تم سے

حَتّیٰ

یہاں تک کہ

يَرْدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ

وہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے

إِنْ اسْتَطَاعُوا

اوہ استطاعت رکھیں اگر

وَمَنْ يَرْتَدُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ

اور جو کوئی پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے

فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ

پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو

فَأُولَئِكَ حَبَطْتُ أَعْمَالَهُمْ

تو یہی لوگ ہیں ضائع ہو گئے اعمال ان کے

وَالْآخِرَةُ

اور آخرت میں

فِي الدُّنْيَا

دنیا میں

وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

اور یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے

هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں وہ

وَجَاهُوا فِي سَبِيلِ اللهِ

اللہ کے راستے میں

اور جہاد کیا

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا

ہجرت کی

اور وہ جنہوں نے

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

اوہ جو ایمان لائے

بے شک

أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ

اللہ کی رحمت کی

جو امید رکھتے ہیں

یہی لوگ ہیں

وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

بہت بخشنے والا ہے

اور اللہ

نہایت رحم کرنے والا ہے

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب (نشے) کے بارے میں اور جوئے کے

قُلْ فِيهِمَا

کہہ دیجیے ان دونوں میں

وَمَنَّا فَعُ لِلنَّاسِ

اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے

إِنَّمَا كَبِيرٌ

گناہ ہے بہت بڑا

وَإِثْهَمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

اور گناہ ان دونوں کا زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے فائدے سے

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنِفِقُونَ

اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا کچھ دھرخچ کریں

قُلِ الْعَفْوَ

کہہ دیجیے زائد از ضرورت

كَذِلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ

اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

تم غور و فکر کرو تاکہ تم

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اور آخرت میں

دنیا میں

وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْيَتَمَّ

اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں

قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ

کہہ دیجیے اصلاح کرنا ان کی بہتر ہے

وَإِنْ تُخَالِطُهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ

اور اگر تم ملا لو انہیں تو وہ بھائی ہیں تمہارے

وَاللهُ يَعْلَمُ

اور اللہ جانتا ہے

مِنَ الْمُصْلِحِينَ

اصلاح کرنے والے سے

المُفْسِدَ


فساد کرنے والے کو

وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَا يَعْنَتُكُمْ

اور اگر اللہ چاہتا ہے البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں

إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

بے شک اللہ بہت زبردست ہے خوب حکمت والا ہے



وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ

اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں

قُلْ هُوَ أَذْيٰ

کہہ دیجیے وہ اذیت ہے

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ

اور نہ تم قریب جاؤ ان کے بیہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ

تو اگر رہو عورتوں سے حیض میں

فِإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأُتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ

پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو آؤان کے پاس اللہ نے حکم دیا تھیں جہاں سے

إِنَّ اللَّهَ
بِشَكْ

وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

اور وہ محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے

يُحِبُّ التَّوَابِينَ

محبت رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ

عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تمہارے لیے

وَقَدِمُوا لَا نَفْسِكُمْ

اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے

فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنِي شَعْتُمْ

تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہوم

وَاتَّقُوا اللَّهَ

اللَّهُ سے اور ڈرو

وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ مُّلْقُوهُ

اور جان لو بے شک تم ملاقات کرنے والے ہو اس سے

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

اور خوش خبری دے دیجیے ایمان لانے والوں کو

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ
 اور نہ تم بناؤ اللہ کو آڑ اپنی قسموں کے لیے

وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ
 اور (نہ) تم صلح کرو گے لوگوں کے درمیان

وَتَتَقَوَّا
 اور (نہ) تم تقوی کرو گے

آنَّ تَبَرُّو
 کہ (نہ) تم نیکی کرو گے

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ

اور اللہ خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي آيَاتِنَا كُمْ

تمہاری قسموں میں

ساتھ لغو کے

اللَّهُ

نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا

وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُ قُلُوبُكُمْ

تمہارے دلوں نے

کمایا

بوجہ اس کے جو

وہ مواخذہ کرے گا تمہارا

اور لیکن

وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

بہت حلم والا ہے

بہت بخشنے والا ہے

اور اللَّهُ

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ

ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے ایلاع کرتے ہیں

تَرْبُصُ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٌ

اٹھا چار مہینے انتظار کرنا ہے

فَإِنْ فَاءُوا

پھر اگر وہ رجوع کر لیں

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

اللہ توبے شک بہت بخشنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلاقَ

اور اگر وہ عزم کر لیں طلاق کا

فَإِنَّ اللَّهَ سَيِّعٌ عَلِيمٌ

اللہ توبے شک خوب سننے والا ہے خوب جانے والا ہے

وَالْهَطَّافُ

اور جو طلاق یا نہ عورتیں ہیں

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَنْتَهُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
 اور نہیں حلال ان کے لیے کہ وہ چھائیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں

يَنْتَهِ بَصَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةٌ قُرُونٌ
 وہ انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو تین حیض/طہر

إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 اگر میں وہ وہ ایمان رکھتیں اللہ پر اور آخری دن پر

وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهِنَّ فِي ذَلِكَ
 اس میں زیادہ حق دار ہیں ان کو لوٹانے کے اور شوہران کے

إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
 اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 اور ان کے لیے ہے مانند اس کے ذمہ ہے ساتھ معرفہ طریقے کے

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
 اور مردوں کے لیے ان (عورتوں) پر ایک درجہ ہے

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
 اور اللہ بہت حکمت والا ہے بہت زبردست ہے

الطلاق مرّتن

دوار ہے

طلاق

او تسریح بِاحسان

رخصت کر دینا ہے

ساتھ احسان کے

یا

فَامْسَأْ بِمَعْرُوفٍ

پھر وک لینا ہے

ساتھ بھلے طریقے کے

وَلَا يَحْلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا

اور نہیں تمہارے لیے کہ تم لے لو

مِهَماً أَتَيْتُمُوهُنَّ

اس میں سے جو کچھ بھی دے دیا ہے تم نہیں

إِلَّا أَنْ يَرْخَافَا أَلَا يُقْبِلَا حُدُودَ اللَّهِ

مگر یہ کہ وہ دونوں قائم رکھ کیں گے حدود کو اللہ کی

فِإِنْ خِفْتُمُ أَلَا يُقْبِلَا حُدُودَ اللَّهِ

پھر اگر خوف کھاؤ تم کہ وہ دونوں قائم رکھ کیں گے حدود کو اللہ کی

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدُتُ بِهِ

تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر اس (چیز) میں جو وہ عورت فدی دے دے ساتھ اس (مال) کے

نِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ

یہ حدود ہیں اللہ کی

فَلَا تَعْتَدُوهَا

تو نہ تجاذب کرنا ان سے

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ

اور جو کوئی تجاوز کرے گا حدود سے اللہ کی

فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

تو یہی لوگ ہیں وہ جو ظالم ہیں

فَإِنْ طَلَقَهَا

پھر اگر وہ طلاق دے دے اسے

فَإِنْ طَلَقَهَا

پھر اگر وہ طلاق دے دے اسے

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

ان دونوں پر کوئی گناہ تو نہیں

فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ

تو نہیں وہ حلال ہو سکتی اس کے لیے بعد اس کے

حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے شوہر سے اس کے علاوہ

أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُفْقِدَا حُدُودَ اللَّهِ

اللہ کی وہ باہم رجوع کر لیں اگر وہ دونوں صحیحین کہ وہ دونوں قائم کر کھیں گے حدود کو

یہ کہ

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

اللہ کی حدود ہیں اور یہ

يَبْيَضُونَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

وہ واضح کرتا ہے انہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ

اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو

فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

پھر وہ پہچیں اپنی مدت کو

أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِسَعْرُوفٍ

رخصت کر دو انہیں ساتھ بھلے طریقے کے

یا

فَآمِسِكُوهُنَّ بِسَعْرُوفٍ

ساتھ بھلے طریقے کے توروں کو انہیں

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا

اور نہ تم روکے رکھو انہیں تاکہ تم زیادتی کرو

وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

اور جو کوئی کرے گا ایسا اس نے ظلم کیا اپنے نفس پر

وَلَا تَتَخَذُوا أَيْتَ اللَّهِ هُرُونَ

اور نہ تم بناو ایسا اللہ کی آیات کو مذاق

وَأَذْكُرُوا

اور یاد کرو

وَالْحِكْمَةٌ

اور حکمت سے

وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ

اور جو اس نے نازل کیا تم پر کتاب سے

نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

اللہ کی جو تم پر ہے نعمت

يَعْظُلُكُمْ بِهِ

وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں ساتھ اس کے

وَاتَّقُوا اللَّهَ

اور ڈرو اللہ سے

وَاعْلَمُوا

اور حجان لو

أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانے والا ہے